

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL

PESHAWAR.

Service Appeal No. 509 /2023

SCANNED
KPST
Peshawar

Abdur Rasheed, PSHTAppellant

Versus

Govt of K.P. through Secretary E&SE and others Respondents

INDEX

S.No.	Description of documents.	Pages.
1.	Memo of appeal.	1-3
2.	Affidavit.	4
3.	Application for suspension of transfer order	5-6
4.	Affidavit	7
5.	Addresses of the parties.	50
6.	Copy of transfer order	6 (2) 6A
7.	Copy of representation	7 (2) 7B
8.	Wakalatnama.	8

Abdur Rasheed

Appellant

Through

Syed Saud Shah

Syed Saud Shah
Advocate High Court

1

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL,

PESHAWAR.

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diary No. 397

Dated 10/03/2022

Service Appeal No. 509 /2022

Abdur Rasheed, PSHT, GPS Agra, Malakand.....Appellant

Versus

- 1) Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Elementary and Secondary Education, Civil Secretariat, Peshawar.
- 2) Director Elementary and Secondary Education, near GHSS No.1, G. T Road, Peshawar
- 3) District Education Officer (M), Malakand..... Respondents

**SERVICE APPEAL U/S 4 OF THE
KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL ACT, 1974.**

PRAYER:

On acceptance of this appeal, impugned order of transfer may also be declared null and void and be set aside.

Filed to-day
by
Registrar

10/3/2022 Respectfully Sheweth;

- 1) That the appellant is serving as P.S.H.T (BPS-15) and posted at GPS, Agra, Malakand.

- 2) That it so happened that departmental inquiry was initiated against him due to certain alleged purchases made by the appellant for official purposes for the school. It is also relevant to mention here that on the directions of competent authority i.e. EDO the same was also deposited in the official head, accordingly. However he was awarded major penalty on 28.07.2017. [REDACTED]
- 3) That feeling aggrieved of the same, the petitioner preferred an appeal to the appellate authority i.e. Director as a result of it, the major penalty of removal from service was converted into one post reduction of time scale from BPS-15 to BPS-14, and intervening period was considered as leave without pay. (Copy of appeal and order are annexed).
- 4) That it is noteworthy that during inquiry the petitioner was kept under suspension and was also deprived of the salary due for such period of time. Moreover, the petitioner was constrained to approach the quarter concerned for the release of his outstanding dues in lieu of salary, however no heed was paid on it, despite the directions of the higher authority in this respect. [REDACTED]
[REDACTED]
- 5) That instead of making any effort towards the materialization of the claim of the petitioner, it appears that the same has led to some kind of annoyance and displeasure in the mind of the competent authority, the respondent No.2. The same also led to the further aggravating of the miseries of the petitioner as he was suddenly transferred to a far flung area GPS Banjo. (Copy of transfer order is annexed). Moreover the appellant has also made representation against it but of no avail, therefore, the appellant is obliged to knock at the doors of this hon'ble Tribunal, inter alia on the following grounds:

GROUND:


- A) That the actions and inaction on the part of the respondents are harsh and smack malafide to the great detrimental of the rights and terms and conditions of the service, hence liable to be cured through the instant service appeal.
- B) That the appellant is old, sick and at the verge of retirement, therefore, the sudden transfer of the petitioner to a far flung area on the basis of likes and dislikes, pick and choose and discriminatory in nature deserves to be set aside and annulled through the instant service appeal.
- C) That it is quite clear from the record that the respondents have not exercised power and authority aptly, justly and in accordance with law in light of the spirit of clause 24-A of General Clauses Act.

It is, therefore, prayed that on the acceptance of the instant service appeal, impugned order of transfer may also be declared null and void and set aside.



Appellant

Through



Syed Saud Shah
Advocate High Court

certificate: No earlier appeal has been filed on the subject matter before this Tribunal.

*Syed Saud Shah
Advocate
[Signature]*

4

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL,
PESHAWAR.

Service Appeal No. _____/2022


Abdur Rasheed, PSHTAppellant

Versus

Govt of K.P. through Secretary E&SE and others Respondents

AFFIDAVIT

I, Abdur Rasheed son of Umar Wahid R/o Agra, District Malakand, PSHT, GPS Agra, Malakand (appellant) do hereby affirm and declare on oath that the contents of the **Application** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Court.



Abdur Rasheed

Deponent
CNIC No.15402-3551584-3

5

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL,
PESHAWAR.

Service Appeal No. _____/2022

Abdur Rasheed, PSHTAppellant
Versus
Govt of K.P. through Secretary E&SE and others Respondents

ADDRESSES OF THE PARTIES

APPELLANT:


Abdur Rasheed, PSHT, GPS Agra, Malakand

RESPONDENTS:

- 1) Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Elementary and Secondary Education, Civil Secretariat, Peshawar.
- 2) Director Elementary and Secondary Education, near GHSS No.1, G. T Road, Peshawar
- 3) District Education Officer (M), Malakand

Appellant

Through



Syed Saud Shah
Advocate High Court



OFFICE OF THE DISTRICT
EDUCATION OFFICER (M)
MALAKAND AT BATHKHELA

Telephone No.0932-410261
Fax No.0932-410010
Email
cont. malakand@gmail.com

OFFICE ORDER.

The Competent Authority is pleased to transfer the following PSHT/Head Teachers to the schools noted against each on their own pay and scale in the interest of public service with immediate effect.

No.	Name of Teacher & Designation	Present School	Transferred to	Remarks
01	MR MUHAMMAD AYAZ PSHT BPS-15	GPS BENJO BANDA	GPS AGRA	Vide S.No.02
02	MR> ABDUR RASHID PSHT BPS-15	GPS AGRA	GPS BENJO BANDA	Vide S.No.01 (on Administrative Grounds)

1. No TA/DA is allowed.
2. Charge report should be submitted to all concerned


(Midrar Ullah)
DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) MALAKAND.

Dated 20 /01/2022

Endst: No. 16526-32 /F. No. /Transfers

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. Director E & SE K.P Peshawar for information please.
2. Deputy Commissioner Malakand.
3. D.M.O EMA Malakand.
4. SDEOs (M) Bathkela
5. District Accounts Officer, Malakand.
6. EMIS Cell
7. Master Fze.


DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) MALAKAND

C.T.C


BETTER COPY

OFFICE OF THE DISTRICT
EDUCATION OFFICER (M)
MALAKAND AT BATKHELA

6A

OFFICE ORDER.

The competent authority is pleased to transfer the following PSHT/Head teachers to the station noted against each on their own pay and scale in the interest of public service with immediate effect;

S.No	Name of teacher & Designation	Present School	Transferred to	Remarks
1.	Mr. Muhammad Ayaz PSHT BPS-15	GPS BENJO Banda	GPS AGRA	Vice S No. 02
2.	Mr. Abdur Rashid PSHT BPS-15	GPS AGRA	GPS BENJO BANDA	Vide S. No. 01

1. No TA?DA is allowed.
2. Charge report should be submitted to all concerned.

(Midrar Ullah)
District Education Officer
(Male) Malakand

Endost No. 16526-32/F.No./Transfer

Copy forwarded for information and necessary action to the:

1. Director E&SE KP Peshawar for infoimration please,
2. Deputy Commissioner Malakand
3. DMO EMA Malakand
4. SDEOs (m) Batkhela
5. District Accounts Officer Malkanad
6. EMIS Cell
7. Master file.

District Education Officer
(Male) Malakand

~~NOTED~~
to be kept copy
Advisory

C.T.C
A.A.S

محترم جناب ڈائریکٹر ایجوکیشن آف سرحد صوبہ گلگت بلتستان

7

(8)

Annex B

(7)

دفتر اسٹریٹجی کے لئے

جواب عالی!

گزارش یہ ہے کہ مذکورہ محکمہ تعلیم میں 11/1

1987

سے دینی خرائٹس جسٹس وغیرہ ایجاب دے رہا ہے۔

ڈیپٹی چیف ایجنٹ نے بحوالہ 20/1/2022

2022

مذکورہ کو GPS آگے سے GPS بنجوا گلگت

تبدیل کیا ہے۔ چونکہ GPS بنجوا 200 فلو مٹر

کے۔ مذکورہ سرسبز ہے۔ اور ریٹائرمنٹ کے

قرب ہے۔ اس کے علاوہ محمد ایاز SPST حمارے

جس GPS آگے میں ٹائپ ٹیچر ہے۔ بحوالہ 12/29

2022

ڈیپٹی چیف ایجنٹ نے ٹائپ ٹیچر کو سکول 14 سے

سکول 15 میں ایڈجسٹ کیا ہے۔ اور پھر بائیس 22

بعد محمد ایاز کو آگے میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ مذکورہ کو بیوی کی

فوت ہو چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہیں۔

اور سب سے بڑے حمارے بچوں کا کوئی سہارا نہیں۔ ایذا بردار


C.T.C. (Signature)

دفتر اسٹریٹجی کے لئے کہ مذکورہ حالت کو نظر انداز

تبادلہ تبدیل کرنے کی درخواستیں۔ 21/2022

SPST 11/1/2022

بعدالت جناب سروس سروس
بیتا اور



2 بجانب

عبدالرشید بنام سیکری ایجوکیشن

موزخ
مقدمہ
دعویٰ
جرم

باعث تحریر آنگہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی اور جواب دہی وکل کاروائی متعلقہ
آن مقام بیتا اور کیلئے سید محمد
مقرر کر کے اترار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز
وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقریرات ہ فیصلہ برحلف دینے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور
بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک روپیہ اور عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق
ذرائع پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری کیلئے یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی
نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور
کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ لیا اپنے بجائے تقریر کا اختیار
ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو کبھی کوئی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ
پر داخست منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانشین التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔
کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی
مذکورہ کریں۔ لہذا اذکالت نامہ لکھ دیا کہ سند ہے۔

الرقوم 23 2022

بیتا اور
مقام کے لئے منظور ہے۔

Attested
&
Admitted

Syed Saad Shah
Advocate High Court
B.C no: 10-7981
n.i.e: 17301-3252749-9
cell no: 0300-5945940

عبدالرشید
P.S.H.T
بیتا اور
مقام

قیمت
50 روپے

44340



ایڈویکٹ: خلی سید

بار کونسل / ایسوسی ایشن نمبر:

رابطہ نمبر:

پشاور بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخواہ

بعدالت جناب: KP Service Tribunal Peshawar

منجانب:	دعویٰ:
Appellant	
عبدالله شاہ	علت نمبر:
	مورخہ:
	جرم:
	تھانہ:

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کاروائی متعلقہ

آن مقام پشاور کیلئے سید نصیر علی خان کو وکیل مقرر خلی سید کر کے قرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا، نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے سے تقرر ثالث و فیصلہ برحلف دینے جواب دعویٰ اقبال دعویٰ اور درخواست ازہر قسم کی تصدیق زریں پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا، نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یا طرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی، نیز دائرہ کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل باجزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو وہی جملہ مذکورہ بااختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا سبب پر واضح منظور و قبول ہوگا دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ یا جلاہ باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکورہ کر دیں، لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سدر ہے

المقوم:

Peshawar

نوٹ: اس وکالت نامہ کی فونو کالی یا قابل قبول ہوگی۔